

ہے کہ ایسے ذرائع و وسائل جمع ہو جائیں جن میں سے اس کا عظیم کے اہل زبان تک پہنچنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔  
 عنوان ذیل کے نام سے ادارہ اسی غرض و نیت کیلئے بنا رکھا ہے۔ دعا فرمادیں اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی خیر کو  
 قبول فرمائے وہاں کے عوام تک پہنچنے کے اسباب مہیا کر دے۔ آمین اگر اپنی علمی رائے ماہنامہ الحق میں  
 بھی شائع فرمادیں تو یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ والسلام۔  
 محمد نصر اللہ خان

ناظم لیگ انڈیا اسلام آباد پبلی کیشنز کنجاہ روڈ گجرات شہر

یوگنڈا زبان میں ترجمہ قرآن مجید بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ کچھ تو ایسا غرض سے شائع کیا جا رہا ہے کہ

شاید اشاعت قرآن کے ترویج رکھنے والے کسی صاحب کو اس کا عظیم میں تعاون کرنیکی سعادت حاصل ہو سکے۔ (ادارہ الحق)  
 الحق بابت دسمبر ۱۹۶۵ء پیش نظر ہے۔ یہ امر باعث اطمینان ہے کہ الحق کا نقش  
 ثانی نقش اول سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اللہم زد فرزد ولا تنقص۔

## انگریزی مضامین

دوار کا کی تباہی کے عنوان سے جس فوجی مجاہد کا مکتوب شائع ہوا ہے وہ نہایت مؤثر اور دل دوز ہے۔ کاتب خط  
 کا مکمل پتہ دینا ضروری تھا۔ اس سے روایت بہت ہی قوی ہو جاتی اور رادی جھول و معلوم کی روایت میں جو فرق ہو سکتا  
 ہے۔ اسی انداز سے اس میں قوت آجاتی۔ اب بھی اس مجاہد کا اڈریس دیا جاسکتا ہے۔

قاضی عبدالصمد صاحب سر بازی کی تجویز بہت عمدہ ہے۔ کہ حضرت افغانی مدظلہ کے مضامین کا انگریزی  
 ترجمہ اور مغرب زدہ لوگوں میں اس کی اشاعت بڑی مفید ثابت ہوگی۔ احقر کے ناقص خیال میں اگر مستقل طور پر  
 ان کی اشاعت (انگریزی زبان میں) مشکل ہو تو ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خود الحق کے چند صفحات کو  
 انگریزی میں شائع ہوتے رہیں۔ مستقل یا اردو ہی کے بعض مضامین اگر انگریزی کر کے رسالہ کے بعض صفحات اس  
 کے لئے مختص کر دئے جائیں۔ تو امید ہے کہ رسالہ مجمع البحر میں اردو دان اور انگریزی دان دونوں طبقوں میں  
 مقبول ہو جاوے گا۔

قاضی عبدالکریم۔ نجم المدارس کلاچی

صوبہ ارشاد اس فوجی مجاہد کا نام دینے درج کیا جاتا ہے۔

سید حمید شاہ۔ بی ای این ای پی این ایس۔

معرفت پبلیشنگ آفس کراچی۔

(ادارہ الحق)